



## PRESS RELEASE

### شیل پاکستان نے نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹروے پولیس (NH&MP) ٹریننگ کالج میں ٹرینیز ہاسٹل کا افتتاح کر دیا

کراچی، پاکستان، مئی 17، 2022: ڈپٹی انسپکٹر جنرل موٹروے پولیس محبوب اسلم اور شیل پاکستان لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو اور منیجنگ ڈائریکٹر وقار صدیقی نے نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹروے پولیس ٹریننگ کالج میں سو ٹرینی ڈرائیورز کی گنجائش والے ہاسٹل کا افتتاح کیا۔ اعلیٰ معیاری آرام اور رہائشی سہولتیں ڈرائیورز حضرات کی تربیت پر مثبت اثرات مرتب کریں گی شیل پاکستان نے کمانڈنٹ ٹریننگ کالج ڈی آئی جی محبوب اسلم کی نگرانی اپنی فنڈنگ سے تعمیر کیا ہے۔

کمانڈنٹ پولیس ٹریننگ کالج ڈی آئی جی محبوب اسلم، ڈپٹی کمانڈنٹ تیمور خان، سی پی او ٹریننگ نسیم شاہ، شیل پاکستان آفیشلز اور موٹروے پولیس کے افسران بھی موجود تھے پچھلے بارہ سالوں میں، تربیتی سہولت نے 212 بیجز میں دو ہزار سے زائد شیل پاکستان ڈرائیورز کو تربیت دی ہے۔ ڈپٹی انسپکٹر جنرل موٹروے پولیس محبوب اسلم نے کہا شیل پاکستان نے موٹروے پولیس ٹریننگ کالج میں ڈرائیورز کے نئی سہولیات کی تعمیر میں کلیدی کردار ادا کیا تربیت حاصل کرنے والے ڈرائیورز کے لیے اضافی رہائش کی اشد ضرورت تھی۔ نیا تعمیر ہونے والا ہاسٹل ٹریننگ کالج میں ڈرائیورز کو جدید ترین تربیت سے مستفید ہونے میں معاون ثابت ہوگا موٹروے پولیس ٹریننگ کالج سے تربیت حاصل کرنے والے ڈرائیورز روڈ سیفٹی، سی پیک اور پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ ڈپٹی انسپکٹر جنرل محبوب اسلم نے کہا کہ شیل پاکستان کا موٹروے پولیس کے ساتھ تعاون کرنے میں شکرگزار ہیں۔

تقریب میں، شیل پاکستان لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو اور منیجنگ ڈائریکٹر وقار صدیقی نے کہا، "شیل NHMP کے ساتھ ایک ایسے پراجیکٹ کا حصہ بننا جو ہماری شاہراہوں کی حفاظت پر مثبت اثرات ڈالے گا، یقیناً اعزاز اور فخر کی بات ہے۔ سڑک کے ذریعے ہائیڈرو کاربن کی نقل و حمل پاکستان میں تیل کی صنعت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ٹرانسپورٹیشن کے تحفظ کے لیے صنعت کے معیار کو بہتر بنانا ضروری ہے، جس کے لیے شیل پاکستان مقامی حکام کے ساتھ کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹروے پولیس ڈرائیورز حضرات کی تربیت کے لیے شیل پاکستان لمیٹڈ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ انہوں نے کمانڈنٹ ٹریننگ کالج ڈی آئی جی محبوب اسلم کی کاوشوں کو بھی سراہا۔

کمانڈنٹ پولیس ٹریننگ کالج ڈی آئی جی محبوب اسلم نے کہا کہ شیل پاکستان نے ٹریننگ کالج میں ڈرائیورز کی تربیت کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ عمارت بنائی ہے اور ہم شیل پاکستان کے شکرگزار ہیں وہ روڈ سیفٹی میں اپنا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں یہ ادارہ دفاعی ڈرائیونگ کورسز پیش کرتا ہے جو شیل سے منظور شدہ ہے ٹریننگ کالج کے ٹرینی ہاسٹل میں ٹریننگ پروگرام مکمل ہونے تک ڈرائیوروں کی رہائش کا انتظام ہوتا ہے۔ موٹروے پولیس ٹریننگ کالج میں بنیادی ڈرائیونگ کورسز، ایڈوانس ڈرائیونگ کورسز، ایگزیکٹو ڈیفنسیو ڈرائیونگ کورسز برائے لائٹ ٹرانسپورٹ وہیکلز بیوی ٹرانسپورٹ وہیکلز پبلک سروس وہیکلز ور آئل ٹینک لاری ڈرائیونگ کورسز۔ ملٹی گریڈ پائپ لائن کے ذریعے ماچیکے میں زمینی ارض کی تبدیلی کے ساتھ اس ادارے کی صلاحیت پانچ سو ٹرینیز سے بڑھ کر پندرہ سو ماہانہ ہو جائے گی۔